

2 مئی 2018

## اسٹارم واٹر منیجمنٹ فنانسنگ اسٹڈی کے بارے میں عوامی معلوماتی نشستوں کا انعقاد برامپٹن سٹی ہال میں مورخہ 9 مئی کو

برامپٹن، آن – سٹی آف برامپٹن نے ایک اسٹارم واٹر منیجمنٹ فنانسنگ اسٹڈی شروع کی ہے، تاکہ بارش کے پانی سے نمٹنے کے لیے انفراسٹرکچر کے اثاثہ جات کو منتظم کرنے اور فنڈ فراہم کرنے کے لیے بارش کے پانی کا ایک جامع پروگرام تیار کیا جا سکے۔

رہائشیوں کو بارش کے پانی کے انتظام اور مطالعہ کے نتائج کے بارے میں مزید جاننے اور نئے مجوزہ پروگرام، ریٹ کے ترجیحی ڈھانچے اور فنڈنگ کے نمونے کے بارے میں اپنی رائے فراہم کرنے کے لیے مورخہ 9 مئی، بروز بدھ، شام 7 سے رات 9 بجے تک ایک عوامی معلوماتی نشست میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔

معلوماتی نشستوں میں کمیونٹی کے اراکین کی جانب سے نظر ثانی کے لیے کئی پوسٹر بورڈز شامل ہوں گے۔ سٹی کا عملہ اور پراجیکٹ ٹیم کے اراکین سوالات کے جواب دینے اور بارش کے پانی کے انتظام اور مطالعہ کے بارے میں مزید بات چیت کرنے کے لیے موقع پر دستیاب ہوں گے۔

اگر دلچسپی رکھنے والے فریقین شرکت کرنے سے قاصر ہوں، تو معلوماتی نشست کے بعد پوسٹر بورڈز اور تبصرے کا ایک فارم [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر دستیاب ہو گا۔ تبصرے کا عرصہ 31 مئی 2018 سے شروع ہو گا۔

بارش کے پانی کا انتظام کمیونٹی کی حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی، بوسیدہ ہوتے ہوئے انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی کمیونٹی جیسے عوامل کی وجہ سے، سٹی کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، کہ ہم اپنی کمیونٹی کی توقعات پر پورا اتریں، ہمیں ایک قابل استحکام اور سالانہ طور پر ذمہ دارانہ طریقے سے پیشگی اقدامات کا ایک پروگرام تیار کرنے کی ضرورت ہے۔

مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتی، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654